

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ

# قرآن مجید

مست ترجمہ  
عالیجناب حضرت مولانا محمد علی صاحب  
مؤلف  
بیان القرآن انگریزی ترجمہ القرآن مجید



## سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

(۷۱)

اِنَّا هَاۤءِ ۲۰

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔  
کس (بات) کا ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔  
بڑی بھاری خبر کے متعلق۔

جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں  
یوں نہیں، یہ جان لیں گے۔  
ہاں یوں نہیں، یہ جان لیں گے۔

کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟  
اور پہاڑوں کو میخیں  
اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔  
اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا موجب بنایا۔  
اور ہم نے رات کو پردہ بنایا۔

اور دن کو ہم نے معاش کے لیے بنایا۔  
اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔

اور ہم نے سورج کو روشنی اور گرمی دینے والا بنایا

اور ہم بادلوں سے زور سے برستا ہوا پانی اتارتے ہیں  
تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور سبزی نکالیں۔

اور گھنے باغ۔

بیشک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔

جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم فوج فوج ہو کر آؤ گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ ۝

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ ۝  
الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ ۝  
كَلَّا سَیَعْلَمُونَ ۝

ثُمَّ كَلَّا سَیَعْلَمُونَ ۝  
اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۝  
وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝

وَ خَلَقْنٰكُمْ اَشْرَاجًا ۝  
وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝  
وَ جَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا ۝

وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝  
وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝  
وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَ هَاجِرًا ۝

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً نَّجَّاجًا ۝  
لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَ نَبَاتًا ۝  
وَ جَنَّتِ الْاَنْفَاقُ ۝

اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیقَاتًا ۝  
یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَمَنْ تَبَوَّءَ اَنْوَاجًا ۝

اور آسمان کھول دیا جائیگا سو دروازے ہو جائیں گے۔  
 اور پہاڑ اڑائے جائیں گے سو وہ ریت ہو جائیں گے  
 دوزخ گھات میں ہے۔  
 وہی سرکشوں کا ٹھکانا ہے۔

اس میں برسوں رہیں گے  
 نہ اس میں ٹھنڈک پائیں گے اور نہ پینے کی چیز۔  
 سوائے اُبلتے ہوئے اور سخت ٹھنڈے پانی کے۔

بدلہ موافق (اعمال ہے)  
 کیونکہ وہ حساب کی اُمید نہ رکھتے تھے۔  
 اور ہماری آیتوں کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے جھٹلاتے تھے  
 اور ہر چیز کو ہم نے کتاب میں محفوظ کر لیا۔  
 سو چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے  
 منتفیوں کے لیے کامیابی ہے۔

باغ اور انگور۔

اور نوجوان ہم عمر۔

اور پاک پیالہ

وہ اس میں لغو نہیں منیں گے۔ اور نہ جھٹلانا۔

تیرے رب کی طرف سے بدلہ عطاٹے کافی

آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان کے درمیان ہے۔

بے انتہا رحم والا، وہ اس سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے

جس دن رُوح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے،

وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے، سوائے اس کے جسے رحمان

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝  
 وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝  
 إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝  
 لِلطَّٰغِيْنَ مَا بَآءًا ۝

لِيُثِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝  
 لَا يَدْخُلُوْنَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝  
 إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝

جَزَاءً وَفَاتًا ۝  
 إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝  
 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۝  
 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝  
 فَذُوقُوا كُنْزَ إِذِكُمْ إِلَّا عِدَابًا ۝

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝  
 حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝  
 وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝  
 جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
 الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا ۝  
 اِلَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَن اٰذَنَ لَهُ ۝

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝  
 ذَلِكِ الْيَوْمِ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ انْخَازْ  
 إِلَىٰ سَرِيٍّ مَّابِئًا ۝  
 إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ  
 يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ  
 الْكُفْرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝

اجازت دے اور وہ درست بات کہے  
 یہ دن حق ہے ، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف  
 ٹھکانا بنائے۔  
 ہم تمہیں ایک قریب عذاب سے ڈراتے ہیں، جس دن  
 انسان دیکھ لے گا، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے  
 بھجا اور کافر کہے گا، کاش میں مٹی ہوتا

## سُورَةُ التَّزَعُّتِ مَكِّيَّةٌ (۷۹)

اِنَّا هَا ۲۶

اَلْوَجْهَاتُ ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 وَ التَّزَعُّتِ عَرَقًا ۝  
 وَ النِّشْطِ نَشْطًا ۝  
 وَ السَّيْحِ سَيْحًا ۝  
 فَالسَّبِقِ سَبَقًا ۝  
 فَالْمَدْبَرِ مَدْرًا ۝  
 یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝  
 تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝  
 قُلُوبٌ یُّومِئِدٌ وَّ اِجْفَةٌ ۝  
 اَبْصَارٌ هَا خَاشِعَةٌ ۝  
 یَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ ۝  
 ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا تَخِرَّةٌ ۝  
 قَالُوْا تِلْكَ اِذَا كَرَّرْتَ خَاسِرَةٌ ۝

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔  
 گواہ ہیں ڈوب کر نکال لینے والی۔  
 اور خوشی سے آگے چلنے والی۔  
 اور تیزی سے شغل میں لگ جانے والی۔  
 پھر سبقت کرتی ہوئی آگے بڑھ جانے والی۔  
 پھر معاملہ کی تدبیر کرنے والی (جماعتیں)  
 جس دن کانپنے والی کانپ اٹھے گی۔  
 پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئے گی۔  
 (کچھ) دل اس دن دھرکتے ہوں گے۔  
 اُن کی نظریں نیچی ہوں گی۔  
 کہتے ہیں کیا ہم اُلٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے  
 کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے  
 کہتے ہیں یہ لوٹنا نقصان والا ہے۔

وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔

اور وہ ایک میدان میں ہوں گے

تجھے موسیٰ کی خبر تو پہنچ چکی ہے۔

جب اس کے رب نے اُسے وادی مقدس طوی میں پکارا۔

کہ فرعون کی طرف جا کہ وہ حد سے نکل گیا ہے۔

اور کہہ کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو؟

اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رستہ دکھاؤں سو تو ڈرے۔

سو اس نے اسے بڑا نشان دکھایا۔

مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔

پھر وہ کوشش کرتا ہوا پھر گیا۔

پھر لوگوں کو جمع کیا اور پکارا۔

اور کہا میں تمہارا بڑا رب ہوں۔

سو اللہ تم نے اُسے آخرت اور دنیا کی عبرت ناک سزا میں پکڑا۔

اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔

کیا پیدائش میں تم زیادہ سخت ہو یا آسمان! اس نے

اسے بنایا۔

اس کی بندی کو اودھنچا کیا، پھر اسے ٹھیک بنایا

اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کی روشنی نکالی

اور زمین کو اس کے بعد بچھایا

اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔

اور پہاڑوں کو مضبوط بنایا۔

فَاتِمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٦﴾

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٧﴾

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٨﴾

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٩﴾

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٠﴾

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَزْكَى ﴿٢١﴾

وَآمِدِّيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿٢٢﴾

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾

فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢٤﴾

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴿٢٥﴾

فَوَحَّشَ فِتْنَادَى ﴿٢٦﴾

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٧﴾

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٨﴾

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٢٩﴾

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ

بَنَاهَا ﴿٣٠﴾

رَفَعَ سَنَكهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٣١﴾

وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٣٢﴾

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٣﴾

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣٤﴾

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٥﴾

مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعْمًا لَكُمْ ۝

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۝  
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۝

وَبُرْنَازِتِ الْجَحِيمِ لِمَنْ يَرَىٰ ۝  
فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۝

وَأَشْرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝  
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَذَهَى  
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۝

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝

إِلَىٰ سَرِيكَ مُنْتَهَاهَا ۝

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَحْشَاهَا ۝

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا

إِلَّا عَشِيرَةً أَوْ ضُحَاهَا ۝

تمہارے لیے اور تمہارے چار پاریوں کے لیے سامان۔

سو جب غالب آنے والی مصیبت آجائے گی

جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی۔

اور دوزخ اس کے لیے ظاہر ہو جائے گا جو دیکھتا ہے۔

سو جس نے سرکش کی۔

اور دنیا کی زندگی کو مقدم کیا۔

تو دوزخ ہی ٹھکانا ہے۔

اور جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس

کو خواہش سے روکتا ہے

تو بہشت ہی ٹھکانا ہے۔

وہ نتیجہ سے اس گھڑی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا قائم ہونا ہے۔

اس بارے میں کہ تو اس کا یاد دلانے والا ہے

تیرے رب کی طرف اس کا انجام ہے۔

تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔

جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے، گویا کہ صرف ایک شام یا

صبح ہی ٹھیرے تھے۔

## (۸۰) سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

اللہ تعالیٰ نے انتہا حرم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

تیموری چٹھڑھاٹی اور منہ پھیر لیا۔

اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَ تَوَلَّىٰ ۝

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۝

اور تجھے کیا خبر ہے کہ شاید وہی پاکیزگی اختیار کرے۔

یا نصیحت قبول کرے پس نصیحت اسے فائدہ دے۔

جو پروا نہیں کرتا۔

تو اس کی طرف تو متوجہ ہونا ہے

اور تجھ پر کیا (الزام) ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے۔

اور جو تیرے پاس دوڑتا آیا۔

اور وہ ڈرتا ہے۔

تو اس سے تو بے رنجی کرتا ہے۔

یوں نہیں چاہیے، یہ ایک نصیحت ہے۔

سو جو کوئی چاہے اسے یاد رکھے۔

عزت والے صحیفوں میں،

(جو بلند اور) پاک (ہیں)

لکھنے والوں کے ہاتھوں میں،

(جو) معزز نیک (ہیں)

انسان ہلاک ہو، کیسا ناشکر ہے۔

اس کے سب چیز سے پیدا کیا۔

لفظ سے اُسے پیدا کرتا ہے پھر اسے طاقت دیتا ہے۔

پھر رستہ (اس کے لیے) آسان کر دیتا ہے۔

پھر اُسے مارتا ہے پھر قبر میں ڈالتا ہے

پھر جب چاہے گا اُسے اٹھا کھڑا کرے گا۔

یوں نہیں وہ پورا ہی نہیں کرتا جو اسے حکم دیتا ہے۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكٰى ﴿٦﴾

اَوْ يَدَّكَّرُ فَتَنْفَعَهٗ الدَّكْرٰى ﴿٧﴾

اَمَّا مِّنْ اَسْتَعْنٰى ﴿٨﴾

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدِّىٓ ﴿٩﴾

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزْكٰى ﴿١٠﴾

وَاَمَّا مِّنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ﴿١١﴾

وَهُوَ يَخْشٰى ﴿١٢﴾

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰى ﴿١٣﴾

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١٤﴾

فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ﴿١٥﴾

فِيْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ﴿١٦﴾

مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٧﴾

بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٨﴾

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٩﴾

فَتِلْكَ الْاِنْسَانُ مَا اكْفَرَهُ ﴿٢٠﴾

مِنْ اٰمِيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿٢١﴾

مِنْ نُّطْفَةٍ طَخَلَقَهُ فَقَدَّرَاهُ ﴿٢٢﴾

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَاهُ ﴿٢٣﴾

ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَاهُ ﴿٢٤﴾

ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَاهُ ﴿٢٥﴾

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهُ ﴿٢٦﴾

پس انسان کو چاہیئے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔  
(پہلے) ہم خوب پانی برساتے ہیں۔  
پھر ہم زمین کو شق کرتے ہوئے پھاڑتے ہیں۔  
پھر ہم اس میں غلہ اگاتے ہیں۔

اور انگور اور ترکاری۔

اور زیتون اور کھجور۔

اور گھنے باغ۔

اور پھل اور چہارہ

تھارے لیے اور تھارے چار پاؤں کے لیے سامان۔

سو جب بہا کر دینے والی مصیبت آئے گی

جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔

اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔

اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔

ہر انسان کے لیے جس دن ایک کام ہوگا جو اسے کافی ہوگا۔

(کچھ) منہ اس دن چمک رہے ہوں گے۔

خوش خوش خبری کو پالینے والے۔

اور (کچھ) منہ اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگا۔

سیاہی ان پر چھائی ہوگی۔

یہی کانسر بدکار ہیں

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٦٨﴾

إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ﴿٦٩﴾

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا ﴿٧٠﴾

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٧١﴾

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٧٢﴾

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٧٣﴾

وَحَدَائِقَ غُلَبًا ﴿٧٤﴾

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٧٥﴾

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٧٦﴾

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ﴿٧٧﴾

يَوْمَ يَفِرُّ الْرءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٧٨﴾

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٧٩﴾

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٨٠﴾

لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٨١﴾

وَجُودٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٨٢﴾

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٨٣﴾

وَوُجُودٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٨٤﴾

تَرْمُقُهَا قَرَةٌ ﴿٨٥﴾

يَعْلَمُ أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٨٦﴾



اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

جب سورج پلٹ لیا جائے گا۔

اور جب تارے جھڑ جائیں گے۔

اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔

اور جب اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی۔

اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے۔

اور جب دریا خشک کر دیئے جائیں گے۔

اور جب لوگ باہم ملا دیے جائیں گے۔

اور جب زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا۔

کس گناہ پر وہ قتل کی گئی۔

اور جب صحیفے پھیلا دیئے جائیں گے۔

اور جب آسمان کی کھال تار سی جائے گی

اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی۔

اور جب بہشت قریب لائی جائے گی

ہر شخص جان لے گا کہ کیا لایا ہے۔

نہیں میں پیچھے ہٹنے والوں کی قسم کھاتا ہوں۔

چلنے والوں پھینپنے والوں کی۔

اور رات کی جب وہ جانے لگے۔

اور صبح کی جب وہ طلوع کرے

یہ یقیناً معزز رسول پر (اترا ہوا) کلام ہے۔

طاقت والے صاحب عرش کے نزدیک مرتبے والے پر۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

وَ اِذَا النُّجُومُ اِنْكَدَرَتْ ۝

وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

وَ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

وَ اِذَا الْبُحُورُ مُرْوَجَتْ ۝

وَ اِذَا الْمَوْدَّةُ سِيلَتْ ۝

بِآيٍ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝

وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

وَ اِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝

وَ اِذَا الْجَحِیْمُ سُعِّرَتْ ۝

وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُنْزِلَتْ ۝

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ۝

فَلَا اُقْسَمُ بِالْخَنَّسِ ۝

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝

وَ الْيَلِ اِذَا اَعْسَسَ ۝

وَ الصُّبْحِ اِذَا اَتَفَفَسَ ۝

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝

جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور امین -

اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں۔

اور یقیناً اس نے اپنے آپ کو کھلے انتہائی مقام پر دیکھا۔

اور وہ غیب پر بخشیں نہیں

اور یہ مردود شیطان کا کلام نہیں۔

سو تم کدھر جاتے ہو

وہ سب قوموں کے لیے شرف ہے۔

اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔

اور تم نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ تم جہانوں

کا رب چاہے۔

مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٌ ۝

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝

وَلَقَدْ سَرَاهُ بِالْأَفْئِقِ الْمُبِينِ ۝

وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ ۝

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِئٍ ۝

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

## سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

(الأنفطار ۱۹)

الأنفطار

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔

جب آسمان پھٹ جائے گا۔

اور جب تمہارے پھیل جائیں گے۔

اور جب دریا بہا دیئے جائیں گے۔

اور جب قبریں کھول دی جائیں گی

ہر شخص جان لیگا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے رکھا۔

اے انسان! تجھے اپنے ربِّ کریم کے بارے میں کس چیز

نے دھوکا دیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ

الْكَرِيمِ ۝

جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے حکمت سے بنایا پھر تجھے اعتدال پر بنایا  
جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا  
یوں نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو۔  
اور یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے ہیں۔  
معزز لکھنے والے۔

وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔

یقیناً نیک نعمتوں میں ہوں گے۔

اور بدکار یقیناً دوزخ میں ہوں گے۔

جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔

اور وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے

اور تجھے کیا معلوم ہے جزا کا دن کیا ہے۔

پھر تجھے کیا معلوم ہے جزا کا دن کیا ہے۔

جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کوئی اختیار نہ رکھے گا اور حکم اس

دن اللہ تم ہی کا ہوگا

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۝۱

فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝۲

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝۳

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝۴

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝۵

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝۶

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝۷

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝۸

يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الذِّينِ ۝۹

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝۱۰

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ۝۱۱

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ۝۱۲

يَوْمَ لَا تَمَلِكُ لِنَفْسٍ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۝۱۳

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝۱۴

الْوَعْدِ

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ

الْأَنْعَامِ ۳۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

وَيْلٌٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ۝۲

ہیں۔

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے

جو جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں ، تو پورا کر لیتے

اور جب انھیں ماپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔  
کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔  
ایک بڑے دن کے لیے۔

جس دن لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔  
مرکز نہیں، بدکاروں کے اعمال قید خانے میں ہیں  
اور تو کیا جانتا ہے قید خانہ کیا ہے۔  
وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔  
جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔

اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار۔

جب اس پر ہماری آنتیں پڑھی جاتی ہیں، کتنا ہے پہلوں کی  
کمانیاں ہیں۔

ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کا زنگ بیٹھ  
گیا ہے

ہرگز نہیں وہ اپنے رب سے اس دن اجھل میں ہوں گے  
پھر وہ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے۔

پھر کہا جائے گا یہ ہے جسے تم جھٹلاتے  
تھے۔

ہرگز نہیں، نیکوں کے اعمال بلند مقامات پر ہیں  
اور تجھے کیا معلوم ہے بلند مقامات کیا ہیں۔

وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔

جسے مقرب موجود پائیں گے۔

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿۱۵﴾  
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿۱۶﴾  
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۷﴾

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸﴾  
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ ﴿۱۹﴾  
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴿۲۰﴾  
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿۲۱﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۲﴾  
الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۲۳﴾  
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿۲۴﴾  
إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ  
الْأَوَّلِينَ ﴿۲۵﴾

كَلَّا بَلْ سَنَةٌ مِّنْ رَّأْسِنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ  
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۲۶﴾

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوتُونَ ﴿۲۷﴾  
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿۲۸﴾  
ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ  
تُكَذِّبُونَ ﴿۲۹﴾

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿۳۰﴾  
وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿۳۱﴾

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿۳۲﴾

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿۳۳﴾

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۱۷﴾  
یقیناً نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے۔

عَلَى الْأَسْرَابِكِ يُنظَرُونَ ﴿۱۸﴾  
تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔

تَوَّانَ كَعُجْرٍ عَلَى نَعْمَتٍ كِي تَارِكِي مَعْلُومِ كَرِي كَا۔  
تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی معلوم کرے گا۔

اَعْيِيں اِيكِ خَالِصِ بِيْنِي كِي جِيْزِي پِلَاؤِي جَانِي كِي جِيں پَر مَہر كِي ہو ئِي كِي كِي  
اس كِي مَہر شَك كِي كِي كِي اور اس ميں چَا بِيْئِي كَر رَغْبَت كَر نِي كَالِي

رَغْبَت كَرِيں۔

اور اس كِي مِلَاوٹ اس پَانِي سِي سِي كِي جو بِلنديوں سِي بَتَا كِي كِي  
وہ اِيكِ كِي شِيْمہ كِي كِي جِيں سِي مَقْرَبِ پِيْتِي كِي كِي۔

جو مَجْرَمِ كِي كِي وہ ان پَر جو اِيْمَان لَانِي مَہِنَا  
كَر تِي كِي كِي۔

اور جَب ان پَر كَر رَتِي كِي تُو اَنكھوں سِي اَشَارِي كَر تِي كِي كِي  
اور جَب اِنپِنِي سَا كِيئِيوں كِي كَر فِ لُوٹ كَر جَانِي كِي تُو اَتْرَانِي

ہو ئِي كِي لُوٹِي۔

اور جَب اَعْيِيں دِكِيْتِي كِي كِي، يَرِيقِيَا كَرَا كِي كِي۔  
اور وہ ان پَر مَحَافِظِ بِنَا كَر نِيں بِيْجِي كِي كِي۔

سو آج جو اِيْمَان لَانِي، وہ كَا فِرُوں پَر  
مَہِنْتِي كِي كِي۔

تختوں پَر بِيْئِي دِكِيھ رِي كِي كِي۔  
كَا فِرُوں كُو وہِي بَدَل مَلَا جو وہ كَر تِي كِي كِي۔

عَلَى الْأَسْرَابِكِ يُنظَرُونَ ﴿۱۸﴾  
عَلَى مَلِ ثُؤَبِ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۹﴾

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار جسم کرنے والے کے نام سے  
جب آسمان بھٹ جائے گا۔

اور اپنے رب کی بات سنے گا اور وہ اسی لائق ہے۔

اور جب زمین پھیل جائے گی۔

اور جو اس کے اندر ہے وہ نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔

اور اپنے رب کی بات سنے گی اور وہ اسی لائق ہے

لے انسان تو سخت کوشش کر کے اپنے رب کی طرف پہنچنے والا

پھر اُسے ملنے والا ہے

سو جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی،

تو اس کا حساب بھی آسان لیا جائے گا۔

اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف خوش خوش لوٹ جائے گا۔

اور جس کی کتاب اس کی بائیں ہاتھ کے پیچھے سے دی گئی

تو وہ موت مانگے گا،

اور دوزخ میں داخل ہوگا۔

وہ (پہلے) اپنے ساتھیوں میں خوش تھا۔

اس کا خیال تھا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا

ہاں اس کا رب اسے دیکھنے والا ہے۔

سو نہیں میں شام کی سُرخ کی قسم کھاتا ہوں۔

اور رات کی اور اس کی جیسے وہ جمع کرتی ہے۔

اور چاند کی جب وہ کامل ہوتا ہے۔

تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھو گے

سو انھیں کیا ہوگا کہ ایمان نہیں لاتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِذَا السَّمَاءُ اُنشَقَّتْ ۝

وَ اِذْ نُنْتَ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۝

وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝

وَ اَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ ۝

وَ اِذْ نُنْتَ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۝

يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّا كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ

كَدْحًا فَلَمْلِقِيهِ ۝

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۝

فَسَوْفَ يُحٰسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝

وَ يَنْقَلِبُ اِلَى اٰهْلِهِ مَسْرُوْرًا ۝

وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَّرَآءَ ظَهْرِهِ ۝

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝

وَ يَصْلٰى سَعِيْرًا ۝

اِنَّهٗ كَانَ فِىْ اٰهْلِهِ مَسْرُوْرًا ۝

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرًا ۝

بَلٰى ۝ اِنَّ رَآبَهُ كَانَ يَهٗ بَصِيْرًا ۝

فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝

وَ الْوَيْلِ وَ مَا وَسَقَ ۝

وَ الْقَمَرِ اِذَا اَتَسَقَ ۝

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿۱۵﴾ اور جب اُن پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔  
 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ ﴿۱۶﴾ بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔  
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿۱۷﴾ اور اللہ تم سے جو وہ دلوں میں رکھتے ہیں  
 فَبَيِّنْ لَهُمْ بِعَذَابِ آيَاتِهِ ﴿۱۸﴾ سو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے۔  
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿۱۹﴾ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اُن کے  
 لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿۲۰﴾ لیے اجر ہے جو ختم نہ ہوگا۔

### (۱۵) سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ۲۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿۱﴾  
 وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿۲﴾  
 وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿۳﴾  
 قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَحْزَابِ ﴿۴﴾  
 النَّعَامِ ذَاتِ الْوُجُودِ ﴿۵﴾  
 إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿۶﴾  
 وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ  
 شُهُودٌ ﴿۷﴾  
 وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا  
 بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿۸﴾  
 الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۹﴾

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
 ستاروں والا آسمان گواہ ہے۔  
 اور وعدے کا دن  
 اور گواہ اور جس کی گواہی دی گئی۔  
 خندق والے ہلاک ہو گئے  
 آگ والے جس میں ایندھن ڈالا جاتا ہے۔  
 جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے  
 اور وہ اس پر گواہ تھے، جو وہ مومنوں کے ساتھ کرتے  
 تھے۔  
 اور وہ ان سے صرف اس بات کو برا مانتے تھے کہ وہ اللہ تم  
 غالب تعریف کیے گئے پر ایمان لائے ہیں۔  
 وہ جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین کی ہے اور اللہ تم  
 ہر چیز پر گواہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ  
وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝  
إِنَّهُ هُوَ يُبَدِّلُ وَيُعِيدُ ۝

وَهُوَ الْعَظِيمُ الْوَدُودُ ۝  
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۝  
هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝  
وَاللَّهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝  
فِي كُوفٍ مَحْفُوظٍ ۝

وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دکھ دیتے  
ہیں، پھر توبہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب  
ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔

وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے  
لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بڑی  
کامیابی ہے۔

یقیناً تیرے رب کی گرفت سخت ہے۔

وہی پہلی بار بنانا اور بار بار بنانا ہے۔

اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔

عرش کا مالک بڑی شان والا۔

گر گزرنے والا جو وہ چاہتا ہے۔

کیا تجھے شکر دں کی خبر پہنچی ہے۔

فرعون اور ثمود کی۔

بلکہ وہ جو کافر ہیں جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔

اور اللہ تم نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔

بلکہ وہ ایک قرآن بڑی شان والا ہے۔

محفوظ تختی میں

## سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

(۸۶)

اَنبَاءٌ ۱۰۰

تَوْعَاهَا ۱

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔

آسمان گواہ ہے اور رات کو آنے والا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝



اور تجھے کیا خبر ہے کہ رات کو آنے والا کون ہے۔

چمکتا ہوا ستارہ ہے

کوئی جان نہیں مگر اس پر حفاظت کرنے والا ہے۔

پس انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔

وہ گرائے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔

وہ پٹیچہ اور پسلیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے

یقیناً وہ اس کے ٹوٹانے پر بھی قادر ہے۔

جس دن چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی

تو اس کے لیے نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔

آسمان گواہ ہے جو زمینہ کو لوٹاتا ہے۔

اور زمین جو رپودوں سے ابھٹ پڑتی ہے

یہ یقیناً فیصلہ کی بات ہے۔

اور یہ بیہودگی نہیں

یہ بھی ایک تدبیر میں لگے ہوئے ہیں۔

اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔

پس تو کافروں کو مہلت دے انہیں تھوڑی ہی مہلت دے

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الظَّارِقُ ﴿٦﴾

النَّجْمِ الثَّاقِبِ ﴿٧﴾

إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٨﴾

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٩﴾

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿١٠﴾

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿١١﴾

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿١٢﴾

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿١٣﴾

فَسَأَلَهُ مِنْ تُوهٍُّ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٤﴾

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١٥﴾

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٦﴾

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٧﴾

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٨﴾

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٩﴾

وَآكِيدٌ كِيدًا ﴿٢٠﴾

فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا ﴿٢١﴾

سُورَةُ الْأَعْلَى مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ١٩

رُكُوعُهَا ١

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار جسم کرنے والے کے نام سے

اپنے رب بہت بلند کے نام کی تسبیح کر۔

جس نے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿٢﴾

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣﴾

جس نے (حدکا) اندازہ لگایا پھر راہ دکھائی  
اور جس نے چارہ نکالا۔

پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا  
ہم تجھے پڑھائیں گے سو تو نہ بھولے گا۔

مگر جو اللہ (تعالیٰ) چاہے وہ کھلی بات کو جانتا ہے،  
اور (اُسے بھی) جو چھپا ہے۔

اور ہم آسان (طریق) کی طرف تجھے چلائیں گے

سو نصیحت کرتا رہ، نصیحت یقیناً نفع دیتی ہے۔

وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو ڈرتا ہے۔

اور بد بخت اس سے دُور ہوتا ہے۔

جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔

پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ ہوگا۔

وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔

اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے پس نماز پڑھتا ہے۔

بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔

حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

یقیناً یہ پہلے صحیفوں میں ہے۔

ابراہیمؑ اور موسیٰؑ کے صحیفوں (میں)

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۝

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ

وَمَا يَخْفَىٰ ۝

وَنُبَيِّرُكَ لِيُسْرَىٰ ۝

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۝

سَيَذَكِّرْكَ مَنْ يُخَشَىٰ ۝

وَيَتَجَدَّبُهَا الْأَشْقَىٰ ۝

الَّذِي يَصِلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۗ وَأَنْبَغَىٰ ۝

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝

کیا تیرے پاس ڈھانک لینے والی کی خبر آئی ہے؟  
 (کچھ) منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔  
 محنت کرنے والے تھکے ماندے  
 جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔  
 اُبلتے ہوئے شے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔  
 سوائے کانٹوں کے ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔  
 وہ نہ موٹا کرتا ہے اور نہ بھوک میں کام آتا ہے  
 کچھ منہ اس دن ترقی تازہ ہوں گے۔  
 اپنی کوشش کی وجہ سے راضی ہوں گے۔  
 بلند بہشت میں۔  
 تو اس میں کوئی لغوات نہ سنے گا۔  
 اس میں بہت ہوا چشمہ ہے۔  
 اُس میں اونچے تخت ہوں گے۔  
 اور آبِ خورے رکھے ہوئے۔  
 اور گاؤں کی قطار میں لگے ہوئے۔  
 اور فرش بچھائے ہوئے  
 تو کیا بادلوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا  
 کیے گئے ہیں۔

اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسا بلند بنا یا گیا ہے۔  
 اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔  
 اور زمین کی طرف کہ وہ کس طرح بچھائی گئی ہے

مَلَأْنَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ①  
 وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ②  
 عَامِلَةٌ تَأْصِبَةٌ ③  
 تَصَلِّي نَارًا حَامِيَةً ④  
 تُسْفَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ⑤  
 لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ ⑥  
 لَا يُسِينُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ⑦  
 وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ تَاعِمَةٌ ⑧  
 لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑨  
 فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑩  
 لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِاِغْيَاءٍ ⑪  
 فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫  
 فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ⑬  
 وَآكَابٌ مَوْضُوعَةٌ ⑭  
 وَنَسَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ ⑮  
 وَتَرَابِيٌّ مَبْتُوثَةٌ ⑯  
 أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ  
 خُلِقَتْ ⑰

وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ⑱  
 وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ⑲  
 وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ⑳

سو نصیحت کر تو صرف یاد دلانے والا ہے۔  
 اُن پر تو واروغہ نہیں۔  
 ہاں جو منہ پھیرتا اور انکار کرتا ہے۔  
 تو اللہ تم اُسے بڑا عذاب دے گا۔  
 ہماری طرف ہی اُن کا لوٹ کر آنا ہے۔  
 پھر ہمارے ذمے ہی اُن کا حساب ہے۔

فَذَكِّرْ لعلَّ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿۱۰﴾  
 لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿۱۱﴾  
 اِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿۱۲﴾  
 فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿۱۳﴾  
 اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ﴿۱۴﴾  
 ثُمَّ اِنَّا عَلَيْهِمْ حٰسِبَةٌ ﴿۱۵﴾

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ (۱۹) (الآيات ۳۰)

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔  
 فجر گواہ ہے،  
 اور دس راتیں،  
 اور جنت اور طاق،  
 اور رات جب جانے لگے  
 اس میں عقل والوں کے نزدیک قسم ہے۔  
 کیا تو نے غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے عادی کے ساتھ کیا کیا۔  
 (عاد) ارم بلند عمارتوں والے (کے ساتھ)  
 جن کی مثل شہروں میں پیدا نہ ہوئے تھے  
 اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹان تراشنے۔  
 اور لشکروں والے فرعون کے ساتھ،  
 جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔  
 سو اُن میں بہت فساد کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 وَ الْفَجْرِ ﴿۱﴾  
 وَ لَیَالِ عَشْرِ ﴿۲﴾  
 وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ ﴿۳﴾  
 وَ الْیْلِ اِذَا یَسُرُّ ﴿۴﴾  
 هَلْ فِیْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِیْ حِجْرِ ﴿۵﴾  
 اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿۶﴾  
 اِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿۷﴾  
 الَّتِیْ لَمْ یُخَلِّقْ مِثْلَهَا فِی الْبِلَادِ ﴿۸﴾  
 وَ ثَمُوْدَ الَّذِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿۹﴾  
 وَ فِرْعَوْنَ ذِی الْاَوْتَادِ ﴿۱۰﴾  
 الَّذِیْنَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ ﴿۱۱﴾  
 فَ اَكْثَرُوْا فِیْهَا الْفِسَادَ ﴿۱۲﴾

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿۳۳﴾  
 إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿۳۴﴾  
 فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ  
 فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمَنِ ﴿۳۵﴾  
 وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ  
 رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانَنِ ﴿۳۶﴾  
 كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿۳۷﴾  
 وَلَا تَحْطَبُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ﴿۳۸﴾  
 وَتَأْكُلُونَ التُّرْثَ أَكْلًا لَسًّا ﴿۳۹﴾  
 وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿۴۰﴾  
 كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿۴۱﴾  
 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿۴۲﴾  
 وَجِئْنَا بِيَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۗ يَوْمَئِذٍ  
 يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ۗ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿۴۳﴾  
 يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿۴۴﴾  
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿۴۵﴾  
 وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿۴۶﴾  
 يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿۴۷﴾  
 ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿۴۸﴾  
 فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿۴۹﴾  
 وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿۵۰﴾

سو تیرے رب نے اُن پر عذاب کا کوڑا چلایا  
 بیشک تیرا رب گھات میں ہے۔

تو انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزاتا ہے پھر اسے  
 عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے معزز کیا ہے۔

اور جب اسے آزاتا ہے پھر اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ  
 کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا

ہرگز نہیں بلکہ تم نینم کی خاطر داری نہیں کرتے۔

اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک سرے کو ترغیب نہیں دیتے  
 اور میراث سب کچھ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔

اور مال سے بچھڑیا کرتے ہو

ہرگز نہیں جب زمین ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دی جائے گی۔

اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے قطاروں کی قطاریں

اور اس دن دوزخ لائی جائے گی۔ اس دن انسان یاد

کرے گا اور اس یاد سے اُسے کیا فائدہ ہوگا

کئے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھجا ہوتا۔

سو اس دن ایسی سزا دے گا جو کسی نے نہ دی ہوگی۔

اور ایسا جکڑے گا کہ کسی نے نہ جکڑا ہو۔

اے اطمینان پانے والی جان!

اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اس سے راضی وہ تجھ سے راضی

سو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔

اور میری جنت میں داخل ہو جا

## (۹۰) سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

اِنَّا نَحْنُ

رُكُوْعُهُمَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

وَ اَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

وَ وَاٰلِیْہِٗٓ وَ مَا وَاكَدَ ۝

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبَدٍ ۝

اَیَحْسَبُ اَنْ لَّنْ یَفْقِدَہٗٓ اَحَدًا ۝

یَقُوْلُ اَهْلَکْتُ مَا لَآ لُبَدًا ۝

اَیَحْسَبُ اَنْ لَّمْ یَرَکَ اَحَدًا ۝

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّہٗٓ عَیْنَیْنِ ۝

وَ لِسَانًا وَ شَفَتَیْنِ ۝

وَ هَدَیْنٰہُ النَّجْدَیْنِ ۝

فَلَا اقْتَحَمَ الْعُقَبَةَ ۝

وَ مَا اَدْرٰکُ مَا الْعُقَبَةُ ۝

فَاَنْ رَّاقِبَةَ ۝

اَوْ اِطْعَمُ فِیْ یَوْمِ ذِیْ مَسْجَبَةٍ ۝

یَتَیْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

اَوْ مِسْکِیْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ تَوَاصَوْا

بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ الْمِیْمَنَةِ ۝

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔

اور تو اس شہر میں حرمت سے آزاد کیا گیا ہے۔

اور باپ کی اور جو اس سے پیدا ہوا۔

یقیناً ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے

کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہوگی۔

کے گا، میں نے بہت سامان برباد کر دیا

کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔

کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟

اور زبان اور دو ہونٹ۔

اور ہم نے اسے دونوں اونچے رستے دکھا دیئے

سو وہ اونچی گھاٹی پر چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔

اور تجھے کیا خبر کہ اونچی گھاٹی کیا ہے

کسی گردن کا آزاد کرنا،

یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا۔

قریبی یتیم کو۔

یا مٹی سے ملے ہوئے مسکین کو

پھر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لاتے ہیں اور ایک سرے

کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک سرے کو رحم کی نصیحت کرتے ہیں۔

یہ خوش نصیب ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ

اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ، وہ  
بد نصیب ہیں۔

الْمَشْتَمَةِ ۝۱۹

آگ میں (ڈال کر) ان پر دروازے بند کر دیئے جائیں گے

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝۲۰

## (۹۱) سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

اَنفَاۡءُ ۱۵

رُكُوْعَهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝۱

سورج اور اس کی روشنی گواہ ہیں۔

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝۲

اور چاند جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلٰهَا ۝۳

اور دن جب وہ اسے روشن کرتا ہے۔

وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰهَا ۝۴

اور رات جب وہ اسے ڈھانک لیتی ہے۔

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝۵

اور آسمان اور اس کا بنانا۔

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝۶

اور زمین اور اس کا بچھانا۔

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوٰهَا ۝۷

اور نفس اور اس کی تکمیل

فَاَلٰهُمَا فُجُوْرًا وَّتَقْوٰهَا ۝۸

پھر الہام سے اسے اس کی بدکاری اور اس کے تقویٰ کے رستے بنا دیئے

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَرَكٰهَا ۝۹

وہ کامیاب ہو جس نے اسے پاک کیا۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝۱۰

اور وہ نامراد رہا جس نے اسے دھن کیا

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطُغُوْهَا ۝۱۱

ثمود نے اپنی سرکشی سے (حق کو) جھٹلایا۔

اِذِ اشْبَعَتْ اَشْفٰهَا ۝۱۲

جب ان کا ایک بڑا بد بخت اٹھا۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نٰقَةَ اللّٰهِ

تو اللہ تم کے رسول نے انہیں کہا ، اللہ تم کی اونٹنی

وَسَقٰهَا ۝۱۳

اور اس کے پانی (سے) اسے زرو کو

فَكَذَّبُوْهَا فَعَقَرُوْهَا ۝۱۴

مگر انہوں نے اسے جھٹلایا پھر اس (اونٹنی) کو مار ڈالا تو اللہ تم

فَكَذَّبُوْهَا فَعَقَرُوْهَا ۝۱۵

مگر انہوں نے اسے جھٹلایا پھر اس (اونٹنی) کو مار ڈالا تو اللہ تم

نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا پھر اسے برابر کر دیا۔  
اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا

رَأَتْهُمْ يَبْذُلُهُمْ فِسْوَاهَا ۝  
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

## سُورَةُ الْيَلِ مَكِّيَّةٌ (۹۲)

اِنَّا هَا ۲۱

رَبُّكُمْ هَا ۲۱

اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
رات گواہ ہے جب وہ پردہ ڈالتی ہے  
اور دن جب وہ روشن ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
وَ الْیَلِ اِذَا یُعْشٰی ۝  
وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی ۝

اور نر اور مادہ کا پیدا کرنا۔

وَ مَا خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْاُنْثٰی ۝  
اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَتٰی ۝

بیشک تمہاری کوشش الگ الگ ہے  
سوجودیتا ہے اور تقوے کرتا ہے۔

وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝  
وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝

اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔

وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

تو ہم اسے آسانی کی طرف چلائیں گے۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

اور جو بخل کرتا ہے اور پروا نہیں کرتا۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

اور اچھی بات کو جھٹلاتا ہے۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

تو ہم اسے تنگی کی طرف چلائیں گے۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

اور اس کا مال اس کے کام نہ آئیگا جب وہ ہلاک ہوگا۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

یقیناً رستہ دکھا دینا ہمارا کام ہے۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

اور بلاشبہ آخرت اور پہلی زندگی ہمارے لیے ہی ہے

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

سو میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو شعلے مارتی ہے۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

اس میں کوئی داخل نہیں ہونا مگر بڑا بد بخت۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

جو جھٹلاتا ہے اور پٹھ پھرتی ہے۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

جو جھٹلاتا ہے اور پٹھ پھرتی ہے۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝

جو جھٹلاتا ہے اور پٹھ پھرتی ہے۔

وَ اَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی ۝  
وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝  
فَسَنِیْسِرُکَ لِیُسْرٰی ۝



اور بڑا تقویٰ کرنے والا اس سے پکایا جاتا ہے۔  
جو تزکیہ کے لیے اپنا مال دیتا ہے  
اور اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔  
مگر اسے صرف اپنے رب بلند تر کی رضا منظور ہے  
اور وہ جلد خوش ہو جائے گا۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾  
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾  
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾  
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾  
وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾

سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ (۹۳) اِنَّا هُمَا

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
دن کی روشنی گواہ ہے۔  
اور رات جب ساکن ہو۔  
تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور نہ وہ ناراض ہوا  
اور کبھی حالت یقیناً تیرے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے۔  
اور تیرا رب تجھے جلد دے گا سو تو خوش ہو جائے گا  
کیا اس نے تجھے تمیم نہیں پایا سو پناہ دی۔  
اور تجھے طالب پایا تو راستہ بتایا  
اور تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔  
سو تمیم پر سختی نہ کر۔  
اور سوالی کو نہ ڈانٹ۔  
اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتا رہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَ الضُّحَى ﴿١﴾  
وَالْبَيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾  
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿٣﴾  
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿٤﴾  
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿٥﴾  
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿٦﴾  
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٧﴾  
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾  
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾  
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾  
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

الآثَامُ ۸

## سُورَةُ الْمُنَشَّرِ مَكِّيَّةٌ (۹۴)

الْوَعْدُ ۱

اللہ تعالیٰ بہ انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
 کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا۔  
 اور تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا۔  
 جس نے تیری پیٹھ توڑ رکھی تھی  
 اور ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا۔  
 تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔  
 ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے  
 سوجب تو فاسخ ہو تو کام میں لگ جا۔  
 اور اپنے رب کی طرف دل لگا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝  
 وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝  
 الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝  
 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝  
 فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝  
 اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝  
 فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝  
 وَرٰلِیْ سَرٰیكَ فَارْغَبْ ۝

الآثَامُ ۸

## سُورَةُ التَّيْنِ مَكِّيَّةٌ (۹۵)

الْوَعْدُ ۱

اللہ تعالیٰ بہ انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
 انجیر اور زیتون گواہ ہیں۔  
 اور سینا پہاڑ۔  
 اور یہ امن والا شہر  
 یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر  
 پیدا کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 وَالتَّيْنِ وَالرَّیْثُوْنِ ۝  
 وَطُوْرٍ سِیْنِیْنِ ۝  
 وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۝  
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ  
 تَقْوِیْمٍ ۝

پھر ہم اسے ذلیل سے ذلیل حالت کی طرف بھی لوٹا دیتے ہیں  
 مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ۝  
 اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوتا۔  
تو کیا چیز تھی اس کے بعد جزا کے معاملہ میں جھٹلا سکتی ہے  
کیا اللہ تم سب حاکموں سے بڑھ کر نہیں؟

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝  
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۝  
يَا أَيُّسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۝

## سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ (۹۶) اِنَّا هُمَا ۱۹

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
اپنے رب کے نام سے پڑھ، جس نے پیدا کیا۔  
انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔  
پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑھ کر بزرگی والا ہے۔  
جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا۔  
انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا  
نہیں انسان سرکشی اختیار کرتا ہے۔  
اس لیے کہ وہ اپنے میں بے نیاز سمجھتا ہے  
تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔  
کیا تو نے اسے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔  
جب وہ نماز پڑھتا ہے  
کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔  
یا تقویٰ کا حکم دیتا۔  
کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور پیٹھی پھیر لی۔  
کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تم دیکھتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝  
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝  
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝  
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝  
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝  
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝  
أَنْ سَأَاهُ اسْتَعْنَى ۝  
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ۝  
أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝  
عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝  
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۝  
أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۝  
أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝  
أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝  
كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعْنَا

نہیں اگر وہ نہر کے کا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ

بِالنَّاصِيَةِ ۝

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝

كَلَّا لَا تَطَّعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

گر گھسیٹیں گے  
جھوٹی خطا کار پیشانی (سے)  
سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے۔  
ہم بھی بہادروں کو بلا لیں گے  
نہیں اس کی بات نہ مان اور سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔

## سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

الأنعام ۸

الأنعام ۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۝ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝

سَلَّمَ شَاهِي حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۝

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔  
ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔  
اور تجھے کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے  
لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے  
اس میں فرشتے اور رُوح اپنے رب کے اذن سے ہر امرِ رغیبا  
کو لیے ہوئے اترتے ہیں  
سلامتی یہ فجر کے طلوع تک ہے

## سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَكِّيَّةٌ

الأنعام ۸

الأنعام ۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى

تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔  
وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے  
اور مشرک (گناہ سے) باز آنے والے نہ تھے، یہاں  
تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے

اللہ کی طرف سے رسول جو پاک صحیفے پڑھتا ہے۔

جس میں قائم رہنے والی کتابیں ہیں

اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس

کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آگئی

اور انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ (تعالیٰ) کی عبادت کریں

اس کے لیے فرمانبرداری کو خالص کرتے ہوئے راست روہوں

اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی ٹھیک دین ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے انکار کیا اور مشرک بھی

دوزخ کی آگ میں ہوں گے، اسی میں رہیں گے۔ وہ

بدترین مخلوق ہیں۔

جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں،

وہ بہترین مخلوق ہیں

ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشگی کے باغ ہیں۔

جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ انہی میں رہیں

گے۔ اللہ (تعالیٰ) ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے

راضی ہوئے یہ اس کیسے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝۱

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝۲

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝۳

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

لَهُ الدِّينَ لَا حُنْفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝۴

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝۵

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝۶

جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

عَنْهُ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝۷

آيَاتُهَا ۸

(۹۹) سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ مَكِّيَّةٌ

مَكِّيَّةٌ

اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

جب زمین اپنے بھونچال سے ہلائی جائے گی۔

اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝۲

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝۳

اور انسان کے گا اسے کیا ہوا۔

اس دن وہ اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔

کیونکہ تیرے رب نے اس کے لیے وحی کی

اس دن لوگ الگ الگ ہو کر نکل پڑیں گے کہ انہیں ان

کے عمل دکھائے جائیں

تو جو کوئی ایک ذرہ کے وزن کے برابر بھلائی کرتا ہے

اسے دیکھ لے گا۔

اور جو کوئی ایک ذرہ کے وزن کے برابر بدی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّمُ النَّاسَ أَشْتَاتًا ۝

لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ۝

يَرَهُ ۝

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

۱۰۰

(۱۰۰) سُورَةُ الْعَدِيَّةِ مَكِّيَّةٌ

اللہ تعالیٰ ہنہارحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
گواہ ہیں دوڑنے والے ہانپتے ہوئے۔  
پھر مار کر آگ نکالنے والے۔  
پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والے۔  
پھر اس کے ساتھ وہ گرد اٹھاتے ہیں۔  
پھر وہ اس کے ساتھ (دشمن کی) جماعت میں جا گھتے ہیں۔

یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔  
اور وہ یقیناً اس بات پر خود گواہ ہے۔

اور وہ یقیناً مال کی محبت میں بڑا سخت ہے  
تو کیا وہ جانتا نہیں جب وہ توبہ دین میں ہی باہر نکالے جائیں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
وَالْعَدِيَّةِ ضَبْحًا ۝  
فَالْمُورِيَّاتِ قَدْحًا ۝  
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝  
فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا ۝  
فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝  
وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝  
وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝  
أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝

اور جو سینوں میں ہے وہ ظاہر کیا جائے گا  
یقیناً ان کا رب اس دن ان سے باخبر ہوگا۔

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝  
إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

## (۱۰۱) سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

الْبَاقِيَاتُ ۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
الْقَارِعَةُ ۝  
مَا الْقَارِعَةُ ۝  
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝  
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ  
الْمَبْثُوثِ ۝  
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝  
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝  
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝  
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝  
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝  
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝  
نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور مہربان کرنے والے کے نام سے  
سخت مصیبت ،  
کیا ہی بڑی مصیبت ہے۔  
اور تجھے کیا خبر ہے کسی بڑی سخت مصیبت ہے  
جس دن لوگ پکھرے ہوئے پروانوں کی طرح  
ہوں گے۔  
اور پہاڑ دھنی ہوئی اُون کی طرح ہوں گے  
سو جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی۔  
وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔  
اور جس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی ،  
تو اس کا ٹھکانا ہاویہ ہے  
اور تجھے کیا خبر ہے وہ کیا ہے ؛  
وہ جلتی ہوئی آگ ہے۔

## (۱۰۲) سُورَةُ التَّكْوِيْمِ مَكِّيَّةٌ

الْبَاقِيَاتُ ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
الْحُكْمُ التَّكْوِيْمِ ۝

اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور مہربان کرنے والے کے نام سے  
کثرت مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔

حَتَّىٰ تَرُدُّهُمْ إِلَىٰ مَقَابِرِهِمْ ۖ  
 كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝  
 ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝  
 كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝  
 لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝  
 ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝  
 ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيهِ ۝

یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھتے ہو  
 نہیں، تم جان لو گے۔  
 نہیں نہیں تم جان لو گے۔  
 نہیں اگر تم علم یقین کے ساتھ جانتے،  
 تو تم ضرور دوزخ کو دیکھ لیتے۔  
 پھر تم اُسے ضرور یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھ لو گے۔  
 پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔

### (۱۰۳) سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ (۱۰۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالْعَصْرِ ۝  
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٍ ۝  
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝  
 وَكَوْا صَوَابًا بِحَقِّهِمْ ۝ وَكَوْا صَوَابًا صَابِرِينَ ۝

اللہ تعالیٰ ہر بار رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
 زمانہ گواہ ہے،  
 کہ انسان نقصان میں ہے۔  
 سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں  
 اور ایک سر کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک سر کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں

### (۱۰۴) سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ (۱۰۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝  
 الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝  
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝

اللہ تعالیٰ ہر بار رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔  
 تباہی ہے ہر عیب لگانے والے طعن کرنے والے کے لیے جو  
 مال کو جمع کرتا ہے اور اُسے شمار میں لاتا ہے۔  
 وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا



ہرگز نہیں وہ ضرور حملہ میں ڈالا جائے گا۔

اور تجھے کیا خبر ہے حملہ کیا ہے؟

اللہ تم کی جلائی ہوئی آگ،

جو دلوں پر چڑھتی ہے۔

وہ اُن پر بند کر دی جائیگی۔

بے بسے ستونوں میں بند کر دی جائے گی

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝١

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٢

نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۝٣

الَّتِي تَطَّلِي عَلَى الْأَقْدَمَةِ ۝٤

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝٥

لِي فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٦

آیت ۱

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ

آیت ۱

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

کیا ان کی تدبیر کو برباد نہیں کیا؟

اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پر بند بھیجے۔

جو ان پر سخت پتھر مارتے تھے۔

سو انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝١

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝٢

وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٣

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝٤

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝٥

آیت ۳

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

آیت ۱

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

قریش کی حفاظت کی وجہ سے۔

ان کے جانے اور گرمی کے سفروں میں حفاظت کی وجہ سے

پس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔

جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١

إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعِهِمْ ۝٤

اور خوف سے امن دیا

أَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

## سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعُهَا ۱

آيَاتُهَا ۷

اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
 کیا تو نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔  
 یہ وہی ہے جو تیمم کو دھکے دیتا ہے۔  
 اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا  
 پس ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔  
 جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔  
 جو دکھا واکرتے ہیں۔  
 اور خیرات کو روکتے ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۝  
 فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝  
 وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَسِيرِ ۝  
 قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينَ ۝  
 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝  
 الَّذِينَ هُمْ يُدْأَوْنَ ۝  
 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

## سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعُهَا ۱

آيَاتُهَا ۳

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔  
 ہم نے تجھے کوثر دی ہے  
 سو تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر  
 جو تیرا دشمن ہے اس کا نام لیا کوئی نہ رہے گا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝  
 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝  
 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

## سُورَةُ الْكُفْرُونَ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعُهَا ۱

آيَاتُهَا ۶

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
 کہ دے اے کافرو!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفْرُونَ ۝

میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔  
 اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔  
 اور نہ میں کبھی اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے۔  
 اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔  
 تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے اور میرے لیے میرا بدلہ ہے

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١﴾  
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُوا مَنَ أَعْبُدُ ﴿٢﴾  
 وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٣﴾  
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُوا مَنَ أَعْبُدُ ﴿٤﴾  
 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٥﴾

آیہ ۲

سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ

لُكُوعَهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾  
 وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْ  
 دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿٢﴾  
 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ سَرِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ  
 اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔  
 جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آگئی۔  
 اور تو نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج  
 داخل ہوتے دیکھ لیا۔  
 تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس کی حفاظت  
 مانگ۔ وہ رجوع برحمت کرنے والا ہے

آیہ ۳

سُورَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

لُكُوعَهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾  
 مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهٗٓ وَ مَا كَسَبَ ﴿٢﴾  
 سَيَصْلٰی نَارًا اِذَا ت لَهَبٍ ﴿٣﴾  
 وَ اَمْرَا تَهٗ ط حَمٰلَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾  
 فِیْ جِیْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
 ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ بھی ہلاک ہوا  
 اس کا مال اور جو اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا۔  
 وہ جلد شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔  
 اور اس کی عورت چنچل خور۔  
 اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رستہ ہے

انفاه ۳

## سُورَةُ الْاِحْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

تکو عھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝  
 اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝  
 لَمْ یَلِدْهُ وَاَمْ یُوَدَّدُ ۝  
 وَلَمْ یَکُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
 کہہ اللہ (تعالیٰ) ایک ہے۔  
 اللہ (تعالیٰ) بے نیاز ہے۔  
 نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔  
 اور اس کا کوئی ہمسر نہیں

انفاه ۴

## سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

تکو عھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝  
 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝  
 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝  
 وَمِنْ شَرِّ النَّفَّٰثِ فِي الْعُقَدِ ۝  
 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔  
 کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔  
 ہر چیز کے شر سے، جو اس نے پیدا کی۔  
 اور تاریک رات کے شر سے۔ جب تاریکی چھا جائے۔  
 اور عنایتوں میں پھونکنے والی کی شر سے۔  
 اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے

انفاه ۶

## سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

تکو عھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝  
 مَلِكِ النَّاسِ ۝

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
 کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔  
 لوگوں کے بادشاہ کی۔

إِلَهِ النَّاسِ ۝

لوگوں کے معبود کی۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

پھپھے ہٹ جانے والے کے دوسوسہ کی شر سے۔

الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝

جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔

عَمِيٍّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

جنوں اور انسانوں میں سے

